

## خوش آمدید!

### خوش آمدید!

آپ کو یہاں پا کر خوشی ہوئی۔ کسی بھی جگہ پر رہنا اور اسے اپنے گھر جیسا سمجھنا آسان ہوتا ہے اگر آپ کو ان کی زبان آتی ہو۔ خوش آمدید گرووز آپ کو ابتدائی الفاظ، جملے، عام بول چال سیکھنے میں مدد دیتی ہے اور جرمن ثقافت کے متعلق بھی کچھ بتاتی ہے۔ ابتدائی درجہ کے کورس میں موسیقی کا استعمال کر کے زبان سیکھی جاتی ہے۔ سبق سنتے ہوئے آپ اپنی پسند کی کسی بھی زبان یا اپنی مادری زبان میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان اسباق کے ترجمے کی ایم پی-تھری فائل اور پی ڈی ایف [www.welcomegrooves.de](http://www.welcomegrooves.de) سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

### خالص جرمن

بویریا سے جنوبی سمندری ساحل اور سیکسونی سے روہر کی وادی تک جرمن زبان کے بہت سے لہجے ہیں۔ لیکن فکر نہ کریں ہمارے سبق عام بنیادی جرمن زبان میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جرمنی میں لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں گے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ جرمنی میں لوگ اکثر کہتے ہیں ”اور ٹنگ مَس سین“ جس کا مطلب ہے ”ہر چیز منظم ہو گی“ اور بہت سی چیزیں منظم ہوں گی۔ اپارٹمنٹ کی عمارت میں صفائی کا رجسٹر ہو گا، سکول میں اسباق کی منصوبہ بندی میسر ہو گی، کوڑے میں کاغذ، پلاسٹک اور گلاس الگ ہوں گے۔ یہاں تک کہ ذاتی ملاقاتوں کی بھی پہلے سے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ منتظمین اور ڈاکٹر کی سرجری کے لیے پابندی وقت اور پہلے وقت لینا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اپنے لیے گئے وقت پر نہ آ سکیں تو انہیں صحیح وقت پر مطلع کر دیں۔

### اکٹھے رہنا

انفرادی گھر، مشترکہ گھر، خاندان اور جوڑے شادی کی دستاویزات رکھنے اور نہ رکھنے والے یہ سب جرمنی میں رہنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تحمل اور برابری یہاں کی اہم قدریں ہیں۔ خواتین اپنے لیے آزادانہ فیصلے کرتی ہیں اور کام اور عام زندگی میں مردوں کی طرح اپنے چنے گئے راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔

### میل جول

کسی سے ملتے ہوئے ہاتھ ملائیں۔ دایاں ہاتھ ملا یا جاتا ہے۔ اچھے دوست دائیں اور بائیں گال پر بوسہ دیتے ہیں یا مختصر معانقہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے ملنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ”کیا ہم اکٹھے کافی پی سکتے ہیں؟“ یہاں چائے بھی مقبول ہے۔ شام میں آپ ملنے کے لیے شراب پینے کے لیے پب یا شراب خانے جا سکتے ہیں۔ یہاں الکوحل کے بغیر مشروبات بھی ملتے ہیں۔ ملنے کے لیے دوسری اہم جگہیں انجمن اور کلب ہیں۔ بہت سے گروہ اپنے لیے مخصوص میزوں پر روز ملتے ہیں۔ اکثر یہ جگہیں شور اور ہنگامہ سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہاں تمام موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ناخوشگوار پر بھی۔ دوست ایک دوسرے کو رات کے کھانے پر بلانا پسند کرتے ہیں۔ وہ اکٹھے کھانا پکاتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ یا سٹیک بار پر جاتے ہیں۔ اچھے روایتی کھانے یا سوشی، گوشت کا سالن یا فلافل، یہ سب پسندیدہ کھانے ہیں۔

### ثقافتی فرق

زیادہ تر جرمن لوگ دوسری ثقافتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ سفر کرتے ہیں اور آپ سے ملنے کے بعد واقفیت حاصل کرنا پسند کرتے ہیں۔ پھر بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں ذاتی کمروں میں جوتے اتارنا ضروری نہیں ہے اور بغیر بتائے آنے والے مہمانوں کو کھانا دینا ضروری نہیں اگر میزبان کے پاس کچھ مناسب موجود نہ ہو۔ ایک دوسرے سے بات کر کے باہمی افہام و تفہیم بڑھتی ہے۔ اپنے پڑوسیوں سے ملیں اور بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو جرمن سیکھنے میں بہت مدد ملے گی۔

Deutsch (Du-Form)	جرمن (غیر رسمی انداز)
<b>Willkommen in Deutschland</b>	جرمنی میں خوش آمدید
Guten Morgen!	صبح بخیر
Guten Tag!	اسلام علیکم!
Guten Abend!	شام بخیر!
Hallo, wie geht es dir?	اسلام علیکم، آپ کیسے/کیسی ہیں؟
Danke, es geht mir gut! Und dir?	میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ کیسے/کیسی ہیں؟
Wie heißt du?	آپ کا نام کیا ہے؟ (لفظی ترجمہ: آپ کو کیا کہتے ہیں؟)
Wie ist dein Name?	آپ کا نام کیا ہے؟
Ich heiße Karim/Abeba.	میں کریم/ابیہ ہوں۔ (لفظی ترجمہ: مجھے کریم/ابیہ کہتے ہیں۔)
Mein Name ist Sara/Amadou.	میرا نام کریم/ابیہ ہے۔
Das ist ein schöner Name.	یہ بہت خوبصورت نام ہے۔
Danke, du bist sehr nett.	شکریہ، آپ بہت بامروت ہیں۔
Danke, du bist sehr freundlich.	شکریہ، آپ کی مہربانی۔
Schön, dich kennenzulernen.	آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔
Ich bin Bastian.	میرا نام بیسٹن ہے۔
Das ist ein lustiger Name.	یہ کچھ عجیب سا نام ہے۔
Kennst du einen Bastian?	کیا آپ کسی اور کو جانتے ہیں جس کا نام بیسٹن ہو؟
Ja. Nein. Ja oder nein?	ہاں۔ نہیں۔ ہاں یا نہیں؟
Ich kenne den Fußballspieler.	وہ جو فٹبال کا کھلاڑی ہے۔
Er ist berühmt.	وہ مشہور ہے۔
Alles klar! OK.	ہاں، ٹھیک ہے۔
Möchtest du Fußball spielen?	کیا آپ فٹبال کھیلنا پسند کریں گے؟
Möchtest du schwimmen?	کیا آپ تیراکی کرنے جانا پسند کریں گے؟
Möchtest du spazieren gehen?	کیا آپ پیدل چلنے کے لیے جانا پسند کریں گے؟
Willst du Fahrrad fahren?	کیا آپ سائیکل کی سواری پر جانا پسند کریں گے؟

Ich gehe zum Krafttraining.	میں جم میں ورزش کرنے جا رہا ہوں۔
Kommst du mit?	کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟
Wollen wir Ball spielen?	کیا آپ گیند کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے؟
wir beide/du und ich	ہم دونوں/ آپ اور میں
Ich möchte lesen.	میں پڑھنا چاہوں گا۔
Ich möchte malen.	میں تصویر بنانا چاہوں گا۔
Ich möchte lieber fernsehen.	بہتر ہے کہ میں ٹی وی دیکھوں۔
Ich habe keine Lust.	میرا دل نہیں کر رہا۔
Ich bin müde.	میں تھکا ہوا ہوں۔
Ich möchte mich ausruhen.	میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔
Gute Nacht, schlaf gut!	شب بخیر، مزے سے سوئیں۔
Bis morgen!	کل ملاقات ہو گی!
Ich freue mich, dass du da bist.	مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں ہیں۔

<b>Grundsätzlich gilt:</b>	بنیادی اصول:
<b>Du-Form</b> <b>Du</b> sagt man zu Kindern und zu Erwachsenen, die man gut kennt. → Lektionen 1, 2 und 3	"Du" (غیر رسمی انداز) مخاطب کرنے کا عام انداز ہے جو بچوں، دوستوں، خاندان کے افراد اور اچھی جان پہچان "Du" کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سبق نمبر 1, 2 اور 3
<b>Sie-Form/Höflichkeitsform</b> <b>Sie</b> sagt man in Behörden, auf Ämtern und zu Fremden. → Lektionen 5 und 6	"Sie" (رسمی انداز) مخاطب کرنے کا رسمی انداز ہے جو اجنبی لوگوں، سرکاری ملازمین وغیرہ کے لیے "Sie" استعمال ہوتا ہے۔ سبق نمبر 5 اور 6

Übersetzung/Translation:

Umar Anjum

@2015 Brandecker Media & Friends

Responsible: Eva Brandecker, Hoffeldstr. 33, 40235 Düsseldorf, Germany, www.thegrooves.de

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Deutsch (Du-Form)	غیر رسمی انداز Du جرمن
Woher kommst du?	تم کہاں سے ہو؟
Hallo, woher kommst du?	ہیلو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟
Ich komme aus Syrien/Serbien/ Afghanistan/Eritrea ...	میں شام/سربیا/افغانستان/اریٹیریا ... سے ہوں
Bist du alleine in Deutschland?	کیا تم یہاں جرمنی میں اکیلے ہو؟ (کیا تم یہاں جرمنی میں اپنے طور پر آئے ہو؟)
Oder mit einem Freund?	یا پھر کسی دوست کے ساتھ (مذکر)
Oder mit einer Freundin?	یا پھر کسی سہیلی کے ساتھ (مونث)
Ja, ich bin alleine hier.	ہاں، یہاں میں اکیلا ہوں۔
Nein, ich bin mit meiner Familie hier.	نہیں، میں اپنے خاندان کے ساتھ آیا ہوں۔
Ich habe eine Tochter.	میری ایک بیٹی ہے۔
Ich habe einen Sohn.	میرا ایک بیٹا ہے۔
Ich habe zwei Töchter/ zwei Söhne/vier Kinder.	میری دو بیٹیاں/دو بیٹے، چار بچے ہیں۔
Mein Vater ist hier in Deutschland.	میرے والد یہاں جرمنی میں ہیں۔
Meine Mutter ist hier.	میری والدہ یہاں ہیں۔
Das ist meine Schwester.	یہ میری بہن ہے۔
Das ist mein Bruder.	یہ میرا بھائی ہے۔
Bist du verheiratet?	کیا تم شادی شدہ ہو؟
Ja, meine Frau heißt Dunja.	جی ہاں، میں ہوں۔ میری بیوی کا نام دنجا ہے۔
Sie ist noch zu Hause.	وہ ابھی اپنے ملک میں ہے۔
Mein Mann heißt Omar.	میرے شوہر کا نام عمر ہے۔
Er ist noch zu Hause.	وہ ابھی اپنے ملک میں ہے۔
Nein, ich bin ledig.	نہیں میں غیر شادی شدہ ہوں۔
Wie alt bist du?	آپ کتنے سال کے ہیں؟
Ich bin achtundzwanzig (28) Jahre alt.	میں (28) اٹھائیس سال کا ہوں۔

Was bist du von Beruf?	آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟
Ich bin Ingenieur/Maurer ...	میں ایک انجینئر/مستری ہوں
Ich bin Lehrerin/Verkäuferin ...	میں ایک استاد/سیلز مین ہوں
Ich bin Student/Studentin.	میں ایک طالب علم/طالبہ ہوں۔
Ich habe Medizin/Chemie/ Literatur ... studiert.	میں نے میڈیکل/کیمسٹری/ادب ..... کی تعلیم حاصل کی ہے۔
Ich bin noch in der Ausbildung.	میں نے ابھی اپنی پڑھائی/ٹریننگ مکمل نہیں کی۔
Ich möchte heute telefonieren.	میں آج ایک فون کال کرنا چاہوں گا/گی۔
mit meiner Oma (Großmutter) mit meinem Opa (Großvater)	میں اپنی نانی/دادی کو فون کرنا چاہوں گا/گی میں اپنے نانا/دادا کو فون کرنا چاہوں گا/گی
mit meinen Eltern	میں اپنے والدین کو فون کرنا چاہوں گا/گی
Ich freue mich darauf.	میں اس کا منتظر ہوں۔
Ich spreche mit meiner Familie.	میں اپنے خاندان سے بات کر رہا ہوں۔
Am Telefon oder übers Internet?	فون پر/سکائپ یا انٹرنیٹ کے ذریعے؟
Ist hier ein Computer?	کیا یہاں کوئی کمپیوٹر ہے؟
Wo gibt es kostenloses WLAN (Internet)?	وائی فائی (انٹرنیٹ) کیسے چل سکتا ہے؟
Wie geht es deiner Familie?	تمہارا خاندان کیسا ہے؟
Danke, alles okay.	وہ ٹھیک ہیں، شکریہ۔
Viele Grüße!	انہیں میرا سلام کہنا/میری طرف سے حال چال پوچھیں!
Brauchst du Hilfe?	کیا تمہیں مدد چاہیے؟
Ja, kannst du mir helfen?	جی ہاں، ضرور، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟
Natürlich. Na klar.	جی ہاں، ضرور۔
Sag mir, was ich tun kann?	مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟
Ich helfe gerne.	مجھے مدد کر کے خوشی ہو گی۔
Wir können Freunde sein.	ہم دوست بن سکتے ہیں۔
Viel Glück! Bis bald.	آپ کامیاب ہوں، جلد ہی ملاقات ہو گی۔
Auf Wiedersehen.	خدا حافظ

Deutsch (Du-Form)	غیر رسمی انداز ( Du جرمن )
<b>Essen und Trinken</b>	کھانا اور پینا
Hast du Hunger/Durst?	کیا تم بھوکے / پیاسے ہو؟
Ja, ich habe Hunger/Durst.	جی ہاں، میں بھوکا / پیاسا ہوں۔
Frühstück, Mittagessen, Abendessen.	ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔
Bitte eine Scheibe Brot!	مہربانی کر کے مجھے بریڈ کا ایک ٹکڑا دے دیں!
Bitte ein Brötchen!	مہربانی کر کے مجھے ایک رول دے دیں!
ein Glas Milch	ایک دودھ کا گلاس
eine Flasche Wasser	ایک پانی کی بوتل
ein Glas Wasser	ایک پانی کا گلاس
Gibt es Tee? Gibt es Kaffee?	کیا چائے ہے؟ کیا کافی ہے؟
Da ist Marmelade, da ist Käse.	کچھ جیم ہے، کچھ پنیر ہے۔
Gibt es heißes Wasser für das Baby?	کیا بچے کے لیے گرم پانی ہے؟
Gibt es einen Flaschenwärmer?	کیا بچے کی بوتل گرم کرنے والا ہے؟
Hier ist etwas Gemüse.	یہ کچھ سبزیوں ہیں۔
Hier sind Kartoffeln.	یہ کچھ آلو ہیں۔
Ich esse gerne Salat.	مجھے سالاد پسند ہے۔
Nudeln und Reis	پاستا اور چاول
Fleisch oder Fisch	بڑا گوشت یا مچھلی
Ist das halal/koscher?	کیا یہ کھانا حلال/کوشر ہے؟
Bitte nur etwas Obst.	شکریہ میں صرف کچھ پھل لوں گا۔
Möchtest du etwas essen?	کیا تم کچھ کھانا پسند کرو گے؟
Möchtest du etwas trinken?	کیا تم کچھ پینا پسند کرو گے؟
Ja, gerne. Vielen Dank!	جی ضرور۔ شکریہ۔
Ich möchte nichts essen.	میں کچھ نہیں کھاؤں گا، شکریہ۔

Ich möchte nichts trinken.	میں کچھ نہیں پیوں گا، شکریہ۔
Danke, ich bin satt!	شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔
Wo ist ein Tisch?	کیا کہیں کوئی میز ہے؟
Dort ist ein Tisch frei.	وہاں ایک میز خالی ہے۔
ein Teller – zwei (2) Teller der Teller	ایک پلیٹ۔ دو پلیٹیں۔ پلیٹ
ein Glas – drei (3) Gläser das Glas	ایک گلاس۔ تین گلاس۔ گلاس
eine Tasse – vier (4) Tassen die Tasse	ایک کپ۔ چار کپ۔ کپ
ein Topf – fünf (5) Töpfe der Topf	ایک پیالہ۔ پانچ پیالے۔ پیالہ
ein Messer – sechs (6) Messer das Messer	ایک چھری۔ چھ چھریاں۔ چھری
eine Gabel – sieben (7) Gabeln die Gabel	ایک کائٹا۔ سات کائٹے۔ کائٹا
ein Löffel – acht (8) Löffel der Löffel	ایک چمچ۔ آٹھ چمچے۔ چمچ
ein Stuhl – neun (9) Stühle der Stuhl	ایک کرسی۔ نو کرسیاں۔ کرسی
ein Tisch – zehn (10) Tische der Tisch	ایک میز۔ دس میزیں۔ میز
Wir essen alle zusammen.	ہم سب اکٹھے کھائیں گے۔
Es schmeckt sehr lecker.	یہ لذيذ ہے۔
Es schmeckt sehr gut.	اس کا ذائقہ اچھا ہے۔
Es schmeckt mir nicht.	مجھے یہ پسند نہیں ہے۔
Es tut mir leid.	میں معافی چاہتا ہوں۔
Ich esse kein Schweinefleisch.	میں سور کا گوشت نہیں کھاتا۔
Ich bin Vegetarier/Vegetarierin.	میں سبزی خور ہوں۔
Bitte sehr. Guten Appetit.	یہ لیں۔ مزے کریں۔

Deutsch		جرمن
Zahlen		گنتی
<b>1-10</b>		
1	eins	ایک
2	zwei	دو
3	drei	تین
4	vier	چار
5	fünf	پانچ
6	sechs	چھ
7	sieben	سات
8	acht	آٹھ
9	neun	نو
10	zehn	دس
<b>11-20</b>		
11	elf	گیارہ
12	zwölf	بارہ
13	<b>dreizehn</b>	تیرہ
14	<b>vierzehn</b>	چودہ
15	<b>fünfzehn</b>	پندرہ
16	<b>sechzehn</b>	سولہ
17	<b>siebzehn</b>	سترہ
18	<b>achtzehn</b>	اٹھارہ
19	<b>neunzehn</b>	انیس
20	zwanzig	بیس
<b>21-30</b>		
21	ein <b>und</b> zwanzig	اکیس
22	zwei <b>und</b> zwanzig	بائیس
23	drei <b>und</b> zwanzig	تیس
24	vier <b>und</b> zwanzig	چوبیس
25	fünf <b>und</b> zwanzig	پچیس
26	sechs <b>und</b> zwanzig	چھبیس
27	sieben <b>und</b> zwanzig	ستائیس
28	acht <b>und</b> zwanzig	اٹھائیس
29	neun <b>und</b> zwanzig	انٹیس
30	<b>drei</b> ßig	تیس
<b>10-100</b>		
10	zehn	دس
20	zwanzig	بیس
30	<b>drei</b> ßig	تیس
40	<b>vier</b> zig	چالیس
50	<b>fünf</b> zig	پچاس
60	<b>sech</b> zig	ساتھ
70	<b>sieb</b> zig	ستر
80	<b>acht</b> zig	اسی
90	<b>neun</b> zig	نوے
100	hundert	سو

 neun**zehn**hundert**ein**und**acht**zig (1981)

انیس سو اکیاسی (1981)



Deutsch (Sie/Du-Form)	رسمی انداز Sie جرمن
<b>Badezimmer und Notfall</b>	غسل خانہ/تراش خراش اور ہنگامی حالات
Entschuldigung, wo ist der Waschraum?	معاف کیجئے، غسل خانہ کہاں ہے؟
Wo kann man sich waschen?	میں اپنے ہاتھ کہاں دھو سکتا ہوں؟
Dort geradeaus!	ٹھیک اس طرف!
Hier ist die Toilette.	یہ غسل خانہ ہے۔
rechts für Frauen/links für Männer	زنانہ غسل خانہ دائیں طرف ہے۔ مردانہ غسل خانہ بائیں طرف ہے۔
<b>Haben Sie</b> ein Handtuch für mich?	کیا آپ کے پاس میرے لیے ایک تولیہ ہے؟ (رسمی انداز)
<b>Hast du</b> ein Handtuch für mich?	کیا تمہارے پاس میرے لیے ایک تولیہ ہے؟ (غیر رسمی انداز)
Hier ist ein Handtuch.	یہ تولیہ ہے۔
Hier ist ein Waschlappen.	یہ صفائی کا کپڑا ہے۔
Das Wasser ist (zu) heiß.	پانی بہت گرم ہے۔
Das Wasser ist (sehr) kalt.	پانی بہت ٹھنڈا ہے۔
Was ist das?	یہ کیا ہے؟
Wie heißt das auf Deutsch?	اس کو جرمن میں کیا کہتے ہیں؟
Das ist Seife/Duschgel.	یہ صابن /نہانے کا جیل ہے۔
Hier ist Shampoo für die Haare.	یہ آپ کے بالوں کے لیے شیمپو ہے۔
Ich brauche Toilettenpapier.	مجھے ٹوائلٹ پیپر چاہیے۔
Gibt es einen Föhn?	کیا کوئی ہیر ڈرائیر ہے؟
Wo ist eine Steckdose?	ساکٹ کہاں ہے؟ یہ پلگ میں کہاں لگا سکتا ہوں؟
<b>Sie haben</b> schöne Haare.	آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ (رسمی انداز)
<b>Du hast</b> schöne Haare.	تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ (غیر رسمی انداز)
Danke für das Kompliment.	تعریف کا شکر یہ۔
Ich muss zum Friseur.	مجھے حجام کے پاس جانا ہے۔
Und ich muss mich rasieren.	مجھے شیو کرنی ہے۔
Ja, das stimmt. :)	ہاں آپ کو ضرورت ہے :) -

Oh, ich habe mich verletzt.	اف مجھے چوٹ لگ گئی ہے/میں زخمی ہوں۔
Können Sie mir helfen?	آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ (رسمی انداز)
Ich bin krank.	میں بیمار ہوں۔
Ich brauche einen Arzt.	مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔
Wir brauchen einen Arzt, schnell!	ہمیں ایک ڈاکٹر چاہیے، جلدی سے!
Wo ist das Krankenhaus?	ہسپتال کہاں ہے؟
<b>Können Sie</b> mich (uns) fahren?	کیا آپ مجھے/ہمیں وہاں لے جا سکتے ہیں؟ (رسمی انداز)
<b>Kannst du</b> mich (uns) fahren?	کیا تم مجھے/ہمیں وہاں لے جا سکتے ہو؟ (غیر رسمی انداز)
Wo ist eine Apotheke?	اگلا میڈیکل سٹور کہاں ہے؟
Ich habe (Kopf)schmerzen.	مجھے سر درد ہے۔ میں تکلیف میں ہوں۔
Meine Tochter hat Bauchschmerzen.	میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہے۔
Mein Sohn ist krank.	میرا بیٹا بیمار ہے۔
Er hat Zahnschmerzen.	اس کے دانت میں درد ہے۔
Aua, es tut weh! Mir ist schlecht!	آہ، سخت درد ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں!
Ich habe Fieber.	مجھے بخار ہے۔ مجھے حرارت ہے۔
Wo tut es weh?	درد کہاں ہے؟
Hier und da!	یہاں اور وہاں!
am Bein, am Fuß, am Arm	میری ٹانگ/پاؤں/بازو میں درد ہے۔
am Rücken, am Bauch	میری کمر/معدے میں درد ہے۔
am Hals, am Kopf	میری گردن/سر میں درد ہے۔
Es geht mir besser.	میں بہتر ہوں۔
Danke für <b>Ihre</b> Hilfe, Frau Doktor	ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی مدد کا شکریہ (مونث)
Danke für <b>Ihre</b> Hilfe, Herr Doktor.	ڈاکٹر صاحب، آپ کی مدد کا شکریہ (مذکر)
Gern geschehen.	دوبارہ بھی حاضر ہوں۔
Gute Besserung! Alles wird gut.	آپ جلد صحت یاب ہوں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔

Deutsch (Sie/Du-Form)	غیر رسمی / رسمی Sie/Du جرمن
<b>Ins Gespräch kommen</b>	بات چیت شروع کرنا
Ich habe eine Frage.	میرا ایک سوال ہے۔
Verzeihung ...	معاف کیجئے۔۔۔
Ich möchte gerne Deutsch lernen.	میں جرمن سیکھنا چاہوں گا۔
<b>Können Sie</b> mit mir Deutsch sprechen?	کیا آپ میرے ساتھ جرمن میں بات کر سکتے ہیں؟ (رسمی انداز)
<b>Kannst du</b> mit mir Deutsch sprechen?	کیا تم میرے ساتھ جرمن میں بات کر سکتے ہو؟ (غیر رسمی انداز)
Ich möchte es gerne üben.	میں مشق کرنا چاہوں گا۔
Sehr gerne!	کیوں نہیں، خوشی سے!
<b>Können Sie</b> mir ein paar Wörter beibringen?	کیا آپ مجھے کچھ الفاظ سکھائیں گے؟ (رسمی انداز)
<b>Kannst du</b> mir ein paar Wörter beibringen?	کیا تم مجھے کچھ الفاظ سکھاؤ گے؟ (غیر رسمی انداز)
Natürlich, klar!	ضرور!
Mein Deutsch ist noch sehr schlecht.	میری جرمن ابھی بہت کمزور ہے۔
Die Aussprache ist nicht einfach!	تلفظ آسان نہیں ہے!
Die Grammatik ist sehr schwierig.	قواعد بہت مشکل ہیں۔
Welche Sprache <b>sprechen Sie</b> ?	آپ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ (رسمی انداز)
Welche Sprache <b>sprichst du</b> ?	تم کون سی زبانیں بولتے ہو؟ (غیر رسمی انداز)
Ich spreche etwas Englisch/ ein bisschen Französisch.	میں تھوڑی سی انگریزی/فرنچ بولتا ہوں۔
Ich freue mich, <b>Sie</b> kennenzulernen.	آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ (رسمی انداز)
Ich freue mich, <b>dich</b> kennenzulernen.	تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ (غیر رسمی انداز)
Wollen wir joggen gehen?	کیا ہم دوڑنے چلیں؟
Wollen wir Karten spielen?	کیا ہم ٹاش کھیلیں؟
Wollen wir Schach spielen?	کیا ہم شطرنج کھیلیں؟
<b>Spielen Sie</b> ein Instrument?	کیا آپ کوئی ساز بجاتے ہیں؟ (رسمی انداز)
<b>Spielst du</b> ein Instrument?	کیا تم کوئی ساز بجاتے ہو؟ (غیر رسمی انداز)

Ja, ich spiele Gitarre/Flöte/Trommel ...	ہاں میں گٹار/بانسری/ڈرم..... بجاتا ہوں
Nein, aber ich singe gerne.	نہیں لیکن مجھے گانا پسند ہے۔
Kann ich <b>Ihnen</b> helfen?	کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ (رسمی انداز)
Kann ich <b>dir</b> etwas helfen?	کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ (غیر رسمی انداز)
Kann ich kochen (einkaufen/tragen) helfen?	کیا میں آپ کی کھانا پکانے/خریداری کرنے/سامان لے جانے میں مدد کر سکتا ہوں؟
Danke. Ich sage Bescheid.	شکریہ، میں آپ کو بتا دوں گا۔
Wo <b>wohnen Sie</b> ?	آپ کہاں رہتے ہیں؟ (رسمی انداز)
Wo <b>wohnst du</b> ?	تم کہاں رہتے ہو؟ (غیر رسمی انداز)
Ich wohne in der Bachstraße 12 (zwölf).	میں باچس ٹریسی نمبر بارہ (12) میں رہتا ہوں۔
Meine Adresse ist Schillerplatz 5 (fünf).	میرا پتہ ہے، سچلر پلاٹز پانچ (5)۔
<b>Würden Sie</b> mir die Stadt zeigen?	کیا آپ مجھے آس پاس کا علاقہ دکھا سکتے ہیں؟ (رسمی انداز)
<b>Würdest du</b> mir die Stadt zeigen?	کیا تم مجھے آس پاس کا علاقہ دکھا سکتے ہو؟ (غیر رسمی انداز)
In Ordnung. Gerne.	کیوں نہیں، ضرور۔
Wir treffen uns am Samstag.	ہم اتوار کو ملیں گے۔
 Um fünf Uhr am Nachmittag.	شام پانچ بجے۔
 Um Viertel vor neun.	پونے نو/آٹھ بج کر پینتالیس منٹ پر۔
 Um Viertel nach zehn.	سوا دس/دس بج کر پندرہ منٹ پر۔
 halb vier/fünfzehn Uhr dreiBig	ساڑھے تین/تین بج کر تیس منٹ پر۔
Ich bin pünktlich.	میں وہاں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔
Kann ich eine Stunde später kommen?	اگر میں ایک گھنٹا دیر سے آؤں تو کیسا رہے گا؟
Kein Problem.	کوئی مسئلہ نہیں۔
Ich rufe an, wenn ich nicht kommen kann.	اگر میں نہ آسکا تو فون کر لوں گا۔
Bis dann. Ich freue mich!	بہر ملتے ہیں۔ میں منتظر رہوں گا!
Ich auch. Tschüss. Bis Samstag!	میں بھی، خدا حافظ۔ آپ سے ہفتے کو ملاقات ہو گی۔
Alles Gute!	اپنا خیال رکھیے گا!
Viel Spaß beim Deutsch lernen!	اپنے جرمن اسباق سے لطف اٹھائیے!